

100 Ayat Posts

Volume 11

100 آیات پوسٹس

جلد 11





تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ② هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ③

یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں
جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ④

اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں

سورۃ لقمان 2 تا 4



قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ②

لَمْ يَلِدْهُ ③ وَلَمْ يُولَدْ ③

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ④

کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں
نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد
اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے

Say, The truth is that Allah is One. Allah is Besought of all, needing none.
He neither begot anyone, nor was he begotten.
And equal to Him has never been any one.


الاخلاص 4-1

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف
اور ناشکر ہے۔

Indeed, man is highly unjust, very ungrateful.

ابراہیم: 34





سُبْحٰنَ رَبِّنَا
اِنَّا كُنَّا
ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

ہمارا پروردگار پاک ہے بیشک ہم قصور وار ہیں

We pronounce the purity of our Lord.
No doubt, we were wrongdoers.

القلم 29

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ^{صلی} _ق

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○

تیرے سوا کوئی معبود نہیں،

تُوہر عیب سے پاک ہے، بیشک میں قصور وار ہوں

There is no god but You. Pure are You.
Indeed I was among the wrongdoers.

الانبياء 87



عقیدہ آخر نبوت ﷺ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ^ط

(لوگو! محمد ﷺ) تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں
لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں

(الأحزاب: 40)



رَبِّ كَرِيمٍ كَيْدٍ وَفَرْمَانٍ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط

اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا

البقرة 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ط

اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا
مگر اسی قدر جتنا اس کو دے رکھا ہے

الطلاق 7

اللہ سب کچھ جانتا ہے

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝

وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو
اور ان چیزوں کو جنہیں سینے پوشیدہ رکھتے ہیں

He knows the treachery of the eyes
and whatever is concealed by hearts.

سورۃ مؤمن (غافر) 19





دنیا سے محبت کرتے ہو
اور آخر کو بھول بیٹھے ہو

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝

ہر گز نہیں! اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز
(یعنی دنیا) سے محبت کرتے ہو۔

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝

اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔

(القیامۃ: 20,21)



الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے

When a misfortune comes to them, they say,
"We are Allah's and we shall certainly return to Him"

البقرة 156



وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط

اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں
تو بیشک میں قریب ہوں،

أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ل

میں پکارنے والے کی دُعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے

البقرة 186

رَبِّ انصُرْنِي

اے میرے پروردگار! تُو میری مدد فرما

My Lord, help me.

المؤمنون 26





أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قادر ہے

Do you not know that God has power over all things?

البقرة: 106

حضرت یوسف علیہ السلام کی دُعا

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَف

آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے!

اَنْتَ وٰلِيٌّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

تُوہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَحْقِنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ

مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا
فخرمان بردار ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ط

اور اللہ سے
اس کا فضل مانگا کرو

Pray to Allah for His grace.

النساء 32





والدین سے حُسنِ سلوک اور ان کی شکرگزاری کا حکم

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي عَمَيْنِ

اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے (اپنے پیٹ میں) کمزوری پر کمزوری جھیل کر
اور اس کا دودھ چھڑانا ہو اور دو سال میں

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ⑭

کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا اور میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا

سورة لقمان 14

قیامت کے دن

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٣﴾

ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔

A soul will [then] know what it has
brought [with it].

التکویر: 14



رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

اے ہمارے رب!

ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما،

اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دیجیے

Our Lord, grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes and make us an example for the righteous.

الفرقان 74

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

پس اپنے عظیم رب کے نام کی
تسبیح پڑھا کرو


So, proclaim purity of the name of your Lord,
the Magnificent.

الواقعة 96

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے
اللہ تعالیٰ پاک ہے
عظمت والا ہے

سُنن ابن ماجہ 3806





وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو،
یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے

If you judge, judge between them with justice.
Surely, Allah loves those who do justice.

المائدہ 42

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

اس زمین میں جو کچھ بھی ہے،
فنا ہونے والا ہے۔

Every one who is on it (the earth) has to perish.

الرحمن: 26





نیکی اور بدی کی سزا و جزا

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب ہے

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا

اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا، تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی،

○ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا

الانعام 160



وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ¹⁰

اور ایمان والوں کو
اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے

And in Allah the believers must place their trust.

المجادلة 10

وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا^ق
وَكُفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا


اور اللہ کافی ہے (تمہاری) حمایت کے لیے

اور اللہ کافی ہے (تمہاری) مدد کے لیے

Allah is enough as a friend,
and Allah is enough as a supporter.

النساء: 45





اپنی خطاؤں پر
ربِ کریم سے مُعافی
مانگنے کی دُعا

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ^{سکتہ}

اے ہمارے رب! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے،

وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا،

لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ²³

تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے



وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

اور جو ایماندار ہیں
وہ تو سب سے زیادہ
اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں

Those who believe,
are most firm in their love for Allah.

البقرة 165

مال کے بارے میں ہدایات

اور بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو	وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ
جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں	الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
اور انہیں ان میں سے کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے دو	وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
اور ان سے اچھی بات کہو	وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ○

وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط

اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو۔

Pray to Allah for His grace.

(النساء: 32)



فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ

هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَّقٰ ۗ

تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ،
وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے

So never pose yourselves as clean and pure;
He knows best who is (really) pious.

النجم 32





ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہا کریں

ارشادِ باری تعالیٰ ہے

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ
وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ○

تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے
حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں

And thy Lord is not one to destroy cities wrongously while the inhabitants thereof are rectifiers.

ہود 117



وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ

وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝

اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے
اور تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے

Allah knows your enemies better and Allah suffices as
a protector and Allah suffices as a helper.

النساء 45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ

تَوْبَةً نَّصُوحًا ط

اے ایمان والو! اللہ کے حضور سچی توبہ کرو،

O you who believe, turn to Allah with
a faithful repentance.

التحریم: 8



وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۝

جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اور نیک عمل کرے،
پھر سیدھے راستے پر قائم رہے
تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں

**Surely I am the Most-Forgiving for him who repents and believes
and acts righteously, then follows the right path.**

ظہ 82





معاف کر دینا اور صلح جوئی اللہ کو بہت پسند ہے

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے
تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے

One who forgives and opts for compromise
has his reward undertaken by Allah.

الشوریٰ 40

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ

اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔
پس تو مجھے معاف فرما دے۔

O my Lord, I have wronged myself,
so forgive me. So He forgave him.

القصص: 16



وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
وَلَا تَفَرَّقُوا

اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر
اور تفرقے میں نہ پڑو

Hold fast, all of you, to the cord of Allah,
and be not divided.

آلِ عِمْرَانَ 103



اتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو
اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو

Do you enjoin righteousness upon others
while you ignore your own selves

البقرة 44





إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

پیشک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری سنانے والا

اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

Indeed, We have sent you as a witness
and a bringer of good tidings and a warner

الفتح: 8



متقین کے کام
آسان ہو جاتے ہیں

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُخْرِجْهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ④

اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا،
اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا

And whoever fears Allah,
He brings about ease for him in his affair.

سورة الطلاق 4

حضرت ایوب علیہ السلام کی دُعا

أَني مَسِينِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝

مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے

اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے

Here I am, afflicted by pain
and You are the most merciful of all the merciful.

الانبياء 83





وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو،
اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو

*In Allah you must place your trust,
if you are believers.*

البائده 23

وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط

اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے
تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔

And do not wish for that by which Allah has
made some of you exceed others.

(النساء: 32)



هَذَا خَلَقُ اللَّهِ فَارُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ط

یہ ہے اللہ کی تخلیق!
اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا؟

This is the creation of Allah.
Now, show me what is created by those others, besides Him.

لقمان 11



فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا
اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے

Those who follow My guidance shall have no fear,
nor shall they grieve.

البقرة 388



وَحُصِّلَ
مَا فِي الصُّدُورِ ۝

اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی

And all that is contained in the hearts will be exposed.

العاديات: 10



آپس میں لین دین کے معاملات لکھ لیا کریں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئِيٍّ فَاكْتُبُوا^ط

اے ایمان والو! جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو
تو اسے لکھ لیا کرو،


O you who believe, when you transact a debt payable at a specified time, put it in writing.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

معاف کرنے کو اختیار کیجئے اور نیک کاموں کا حکم دیجئے
اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے

*Hold to forgiveness; command what is right;
But turn away from the ignorant.*

الاعراف 199



وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ ط

اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا،

Whatever good you do, Allah will know it.

(البقرة: 197)



اللَّهُ كَبِيرٌ

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝

اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے،

اور گناہوں کو معاف کرتا ہے،

اور جو کچھ تم کرتے ہو، اس کا پورا علم رکھتا ہے

And He is the One who accepts repentance from His servants
and forgives evil deeds and knows whatever you do.

الشوریٰ 25



تمام فکروں سے آزادی کی دُعا

حَسْبِيَ اللَّهُ ^ص لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرشِ عظیم کا رب ہے

التوبہ 129

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
جو شخص صبح اور شام کے وقت سات مرتبہ کہے

حَسْبِيَ اللَّهُ ^ص لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (التوبہ 129)

تو اللہ اس کی پریشانیوں سے اسے کافی ہوگا
چاہے ان کے کہنے میں وہ سچا ہو یا جھوٹا

سُنن ابوداؤد 5081 باب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو،

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو،

وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے

دیا ہوا ضائع بھی ہو جاتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر
اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو

Believers! Do not nullify your acts of charity by stressing your benevolence and causing hurt.

(البقرة: 264)





وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝۳۴

اور عہد کو پورا کرو
یقیناً عہد کے بارے میں بازپرس ہوگی

And fulfil the promise; indeed the promise will be asked about.

بنی اسرائیل 34



يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝

اس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے
تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہیں رہے گا

On that day, you will be brought forward in a way that no secret of yours will remain secret.

الحاقة 18

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ④٠

اے میرے رب! مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی،
اے ہمارے رب! اور میری دعا قبول فرما

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ④١

اے ہمارے رب! مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو اس دن بخش جس دن حساب قائم ہوگا

سورة ابراهيم 40-41



وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُهَدُونَ ۝

جو لوگ نیک کام کرتے ہیں تو

وہ بھی اپنے ہی لیے (راحت کا) سامان کرتے ہیں

And whoever acts righteously,
then such people are paving the path for themselves,

(الروم: 44)




○ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○

یقین جانو کہ

اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا

Verily, Allah does not like
the transgressors.

البقرة 190



ظلم کس قدر بڑا گناہ ہے؟

میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اپنے اوپر لعنت کرتا ہے
پوچھا گیا وہ کیسے؟


فرمایا: خود ظالم ہوتا ہے اور زبان سے پڑھتا ہے

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ○

سُن لو! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے

(سورۃ ہود 18)

(تَنْبِيْهِ الْغَافِلِيْنَ صَفْحَه 370)



فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا إِذَاتَ بَيْنِكُمْ^ص

پس تم لوگ اللہ سے ڈرو
اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو

So, fear Allah, and set your relations right,

(الانفال: 1)



اسلام کے احکام کو مکمل
قبول کرو اور ان پر عمل کرو



**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا
فِي السَّلَامِ كَافَّةً**

اے ایمان والو!

اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ

O you who believe, enter Islam completely

البقرة 208

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَّقٰ ۗ

پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو،
وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے

**So never pose yourselves as clean and pure;
He knows best who is (really) pious.**

النجم 32





○ وَالْإِلَىٰ رَبِّكَ فَارٌ غَبٌ

اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔

And turn to your Lord with longing.

الشرح: 8

مرنے والے کو جدائی کا احساس

وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ 28

اور انسان سمجھ جائے گا کہ
جدائی کا وقت آگیا

القيامة 28

یعنی مرنے والا سمجھ چکا کہ تمام عزیز واقارب اور محبوب و مالوف چیزوں سے
اب اس کو جدا ہونا ہے یا یہ مطلب کہ روح بدن سے جدا ہونے والی ہے۔
(تفسیر عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی)



إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی،
نہ زمین میں نہ آسمان میں

Surely, Allah is such that nothing is hidden from Him,
neither in the earth nor in the sky.

آل عمران 5




قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر واضح کر دی ہیں،
تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔

We have made the signs clear for you,
so that you may understand.

الحديد: 17




هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ آلِيمٍ

یہ (قرآن) سراپا ہدایت ہے
اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے،
ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے

This is guidance, and those who reject the verses of their Lord,
for them there is a painful punishment of the divine scourge.

الجاثیہ 11



نبی ﷺ کی قرآن مجید کو پس پشت ڈالنے والوں کے خلاف شکایت

وَقَالَ الرَّسُولُ

يَرْبِّ إِنِّي قَوِيٌّ أَتَّخِذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝

اور رسول (ﷺ) کہیں گے کہ

یارب! میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی

And the messenger (S.A.W) will say,
O my Lord, my people had taken this Quran as deserted.



وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝

اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔

And all that is contained in the hearts will be exposed.

العاویات: 10

تین تجارتیں -- جن میں خسارہ نہیں

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۝۲۹

جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں
اور نماز قائم کرتے ہیں



اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں
علانیہ اور خفیہ طور پر خرچ کرتے ہیں



یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہر گز نقصان نہیں ہے

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا
میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا

**So Remember Me, and I will remember you,
and be thankful to Me, and be not ungrateful to Me.**

البقرة 152



إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ


لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ○

پیشک جو لوگ ایمان لے آئے، اور انھوں نے نیک عمل کیے
ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں۔

Surely, for those who believe and do righteous deeds
there are gardens of bliss

(لقمان: 8)





۴۷
إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

بیشک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔

He has always been gracious to me.

مریم: 47

وَتِيَابِكُمْ فَطَهِّرُوا

اور اپنے کپڑوں کو
پاک رکھنے کا اہتمام کیجیے

And purify your clothes

الہدثر 4

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ⑩

اور مانگنے والے کو
جھڑکی نہ دینا

And do not scold the beggar.

الضحیٰ 10

جو حاجت مند آپ کے دروازے پر مانگنے کے لیے آئے
یا سر راہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلا دے
تو اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو کر دیجئے۔
اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو نرمی کے ساتھ
معذرت کر دیجئے۔ مگر کسی حال میں بھی
اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجئے اور جھڑک کر دُور نہ ہٹائیے



وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ ط

اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا،

Whatever good you do, Allah will know it.

(البقرة: 197)





إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ⑧

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے
ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں

Surely, for those who believe and do righteous deeds
there are gardens of bliss

لقمان 08



مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں

كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں


فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعُّ لِمَنْ يُشَاءُ

اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے

البقرة 261



وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو
اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لے آئے ہیں،
لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجیے۔

Our Lord, we have come to believe.

So, record us along with those who bear witness.

المائدہ: 83





اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوشدلی سے خرچ کریں

ارشاداتِ باری تعالیٰ ہیں

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ط

کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے، تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہا زیادہ ہو جائے؟

البقرة 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ○

کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اچھا قرض جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا

الحديد 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے

O Believers! Safeguard yourselves and your families
against a Fire whose fuel is men and stones.

التحریم 6



أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ

وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تم کو پالے گی
خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو

Wherever you will be, Death will overtake you,
even though you are in fortified castles.

النساء 78



يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝

اے انسان! تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے
اپنے رب کریم کے بارے میں۔

O mankind! What has deceived you
about your Gracious Lord,

الإنفطار: 6




14 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

اور میری یاد کے لیے
نماز قائم کرو

And establish Salah for My remembrance

ظہ 14



جنتیوں کی باتیں

دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

وہاں ان کی صدا ہوگی کہ "پاک ہے تو اے اللہ"

وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ

اور وہاں ان کی آپس کی دعا ہوگی "سلامتی ہو"

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ
"سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سب جہانوں کا"

یونس 10



حضرت یعقوب علیہ السلام کی دُعا

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد
اللہ ہی سے کرتا ہوں

I do not complain of my anguish and sorrow to
anyone but Allah

یوسف 86



وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا

وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں
اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں

And they give food, out of their love for Him (Allah),
to the needy, and the orphan, and the captive,

(الدھر: 8)



كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ،

وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي

اور اس میں سرکش نہ کرو جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے۔

وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے

ظہ 81



10 وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ

اور کسی ایسے شخص کے پیچھے نہ لگو
جو قسمیں کھانے والا ذلیل ہے

And do not obey any contemptible one
who swears much

القلم 10



غیبت اور چُغلیاں کرنے والوں کی بات نہ سُنیں


وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ^{۱۰}

اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا، بے وقعت شخص ہے

هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَبِيٍّ^{۱۱}

طعنے دینے کا عادی ہے، چُغلیاں لگاتا پھرتا ہے

القلم 10-11





⑧ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور پاک ہے اللہ
جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے

And pure is Allah, the Lord of the worlds.

النمل 8

آخرت میں اعمال کے مطابق
درجات ہوں گے

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا

ہر ایک کے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجے ہوں گے

وَلِيُؤْفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے
اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا

الاحقاف 19



شُکْر ادا کرنے کے لیے
اپنے رب کی نعمتوں
کا تذکرہ کرتے رہو

○ **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ**

اور اپنے رب کی نعمتوں کا

ذکر کرتے رہیے

And proclaim (well) the bounties of your Lord.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً
إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ
اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے
یقیناً اللہ باریک بین اور بہت باخبر ہے

الحج 63



أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ
إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو
وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور تکلیف دور کر دیتا ہے

Is He [not best] who responds to the desperate one
when he calls upon Him and removes evil.

النمل: 62



إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے،
یہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے

For those who remain steadfast and keep doing pious deeds.
For them is forgiveness and great reward.

ہود 11





حَمْدٌ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ②

حَمْدٌ - قسم ہے واضح کر دینے والی کتاب کی

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ

بیشک اس کو ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا ہے

إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ③

بیشک ہم لوگوں کو آگاہ کر دینے والے تھے

الدخان 1-3

نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ

اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغُدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں

وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ

اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو

الكهف 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

اے ایمان والو! جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے
سے پہلے پہلے کچھ خرچ کرو جس دن نہ تو کسی قسم کی خرید و فروخت ہوگی
اور نہ دوستی کام آئیگی اور نہ کوئی سفارش چلے گی

O you who believe! Spend from what We have given to
you before a day comes when there will be no trading, no
friendship and no intercession.

البقرة 254



لوگوں کے شر و فساد سے بچنے کی دُعا

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿30﴾

اے میرے رب فساد کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما

My Lord, help me against the people
who make mischief.

العنكبوت 30

